

# Visit of the Hon'ble Vice President of India Shri Jagdeep Dhankhar to Qatar, November 20-21, 2022

November 18, 2022

ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ عزت مآب جگدیپ دھنکڑ کا نومبر 20-21، 2022 کو قطر کا دورہ  
نومبر 18، 2022

ریاست قطر کے امیر عزت مآب شیخ تمیم بن حمد الثانی کی دعوت پر ہندوستان کے معزز نائب صدر جمہوریہ 20-21 نومبر کو قطر کا سرکاری دورہ کریں گے اور فیفا ورلڈ کپ، 2022 کے افتتاحی تقریب میں ہندوستان کی نمائندگی کریں گے۔

2- ہندوستان اور قطر کے مابین کثیر جہتی شراکت داری کے ساتھ قریبی اور دوستانہ تعلقات رہے ہیں جو تجارت، توانائی، سلامتی، دفاع، صحت، ثقافت، تعلیم کے علاوہ دیگر شعبوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ گزشتہ مالی سال کے دوران باہمی تجارت 15 امریکی بلین ڈالر سے تجاوز کر گیا تھا۔ قطر ہندوستان کی توانائی میں ایک اہم شراکت دار کا کردار ادا کرتا رہا ہے جبکہ ہندوستان قطر کی غذائی تحفظ میں اپنا تعاون دیتا ہے۔ اگلے سال دونوں ممالک مکمل سفارتی تعلقات کے قیام کا 50 سالہ جشن منائیں گے۔

3- قطر میں 840,000 سے زائد ہندوستانی عوام کی موجودگی دو طرفہ تعلقات کا ایک اہم عنصر ہیں۔ اپنے دورے کے دوران 20 نومبر کو منعقد ہونے والے افتتاحی تقریب میں شرکت کے علاوہ عزت مآب نائب صدر جمہوریہ ہندوستانی کمیونٹی کے ارکان سے بھی ملاقات کریں گے۔

4- عزت مآب نائب صدر جمہوریہ کا یہ دورہ ایک قریبی اور دوست ملک قطر کے ساتھ تعلقات کو مزید تقویت بخشنے کا موقع فراہم کرے گا جو کھیل کا ایک بڑی تقریب کا انعقاد کر رہا ہے، ساتھ ہی اس ورلڈ کپ میں ہندوستان کے ذریعہ فراہم کردہ تعاون اور کردار کو بھی تسلیم کرنے کا ایک موقع فراہم کرے گا۔

نئی دہلی

نومبر 18، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.